

## 39493- کیا بالوں میں تیل کی موجودگی کے باوجود وضوء صحیح ہے؟

### سوال

کیا تھوڑا سا زیتون کا تیل بالوں میں لگا ہو تو وہ بالوں تک پانی جانے کو روک لیا ہے، تو کیا اس طرح وضوء باطل ہو جائیگا؟

### پسندیدہ جواب

ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا تیل بالوں تک پانی جانے میں مانع نہیں۔

اصول یہ ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے:

جب انسان وضوء کے اعضاء پر کوئی کریم یا تیل استعمال کرے یا تو اس کی چھائی جامد ہوگی جو جلد پر باقی رہے اور نظر آئے گی تو اس وقت وضوء کرنے سے قبل اسے اتارنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ اسی حالت میں رہے تو جلد تک پانی پہنچنے میں مانع ہوگی، تو اس طرح وضوء صحیح نہیں ہوگا۔

لیکن اگر تیل وغیرہ جامد نہ ہو اور اس کا جسم نہ ہو بلکہ صرف اعضاء پر اس کا اثر باقی رہے تو یہ نقصان دہ نہیں، لیکن اس حالت میں انسان کو وضوء کرتے وقت اپنا ہاتھ عضو پر پھیرنا چاہیے کیونکہ عام طور پر چھائی سے پانی پھسل جاتا ہے، ہو سکتا ہے پانی سارے عضو کو نہ لگے۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ الطہارۃ (147)۔

اس پر اضافہ یہ ہے کہ سر کے مسح میں تخفیف ہے، کیونکہ سر کا مسح فرض ہے، نہ کہ دھونا، اور مسح کرنے میں بیعتہ سارے بالوں پر پانی پھیرنا لازم نہیں۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

اگر عورت نے اپنے سر پر مندی کا لپ کر رکھا ہو کیا وہ اس پر مسح کر سکتی ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

"جب عورت سر پر مندی وغیرہ کا لپ کرے تو وہ اس پر مسح کرے گی اور اس مندی کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں لپ کر رکھا تھا، چنانچہ سر پر جو لپ کیا جائے وہ اس کے تابع ہے، یعنی سر کے تابع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر کی تطہیر میں سہولت ہے۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ المرأة المسلمة (28/1)۔

تلبید مندی کی طرح سر پر کوئی چیز لگانے کو کہتے ہیں تاکہ بال چپک جائیں، اور ان میں مٹی وغیرہ داخل نہ ہو۔

واللہ اعلم۔